



ٹیکے لگوائیں!

ویکسین کیسے کام کرتی ہیں؟

- ویکسین کی بدولت آپ کا جسم اینٹی باڈیز بناتا ہے۔
- یہ مادہ وائرل ذرات سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔
- کیا آپ ٹیکے کے بعد کورونا وائرس کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں؟ اینٹی باڈیز آپ کی حفاظت کریں گی۔

ویکسین کیوں دی جاتی ہے؟

- کورونا وائرس آپ کے آس پاس کے بہت سارے لوگوں کے لئے خطرناک ہے:
 - 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد
 - پھیپھڑوں ، دل یا عروقی امراض کے شکار افراد
 - ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد
- لیکن ، یہ وائرس نوجوان اور صحت مند لوگوں کے لئے بھی خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔
- اگر بیلجیم کے 70% افراد کو ٹیکے لگائے جائیں تو ، وائرس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا۔ اسے اجتماعی قوت مدافعت کہا جاتا ہے۔
- آپ کی زندگی تیزی سے دوبارہ اپنے معمول کے مطابق شروع ہوگی۔
- آپ کا جسم وائرس کے خلاف اپنا بہتر دفاع کرے گا۔
- لیکن اس وقت تک ہدایات پر عمل کرتے رہیں جب تک کہ کافی لوگوں کو ٹیکے نہ لگا دیئے جائیں۔ 1.5 میٹر کی دوری رکھیں ، منہ کا ماسک پہنیں اور اپنے ہاتھ کثرت سے دھویں۔

ٹیکا کیسے لگایا جائے گا؟

- آپ کو بازو کے اوپر والے حصے میں دو انجیکشن لگائیں جاؤینگے۔
- دوسرا انجیکشن آپ کو پہلے انجیکشن کے 4/3 ہفتے بعد لگایا جائے گا۔
- دوسرے انجیکشن کے بعد ، 15 دن انتظار کرنا ہوگا۔ تب ویکسین کورونا وائرس کے خلاف ہر ممکن حد تک آپ کی حفاظت کرے گی۔

کیا ویکسین بے ضرر ہے؟

- ویکسین مینوفیکچرنگ میں بہت مہارت سے کام لیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے سائنس دانوں اور دواسازی کے ماہرین قلیل مدت میں ہی ویکسین تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے لئے کافی پیسہ اور وقت بھی تھا کیونکہ یہ اشد ضروری تھا۔



- اس ویکسین کو پہلے حکومت کی طرف سے سختی سے کنٹرول کیا گیا ہے۔ یہ بے ضرر ہے۔

کیا مجھے ویکسینیشن کے بعد ضمنی اثرات کا سامنا ہوسکتا ہے؟

آپ کو درج ذیل اثرات کا سامنا ہوسکتا ہے:

- بازو کے اوپر والے حصے میں، ہلکی سرخی ، درد ، یا سوجن
- تھکاوٹ
- سر درد
- درجہ حرارت میں معمولی اضافہ

یہ عام بات ہے اور اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ آپ پیراسیٹامول لے سکتے ہیں۔

مجھے ٹیکہ کب لگایا جائے گا؟

- جنوری:
 - علاج معالجے کے مراکز کے رہائشیوں اور رہائشی نگہداشت کا عملہ
 - ہسپتالوں میں کام کرنے والا عملہ (ڈاکٹر ، نرسیں ، وغیرہ)
- فروری:
 - بنیادی نگہداشت کا عملہ (فیملی ڈاکٹر ، فارماسسٹ ، وغیرہ)
 - اجتماعی نگہداشت کے ادارے (معذور افراد کی امداد کے شعبے وغیرہ) اور اسپتالوں میں کام کرنے والے دوسرے عملے
- مارچ:
 - 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد
 - وہ لوگ جو اپنی صحت کی وجہ سے زیادہ خطرہ میں ہیں
- اپریل:
 - ضروری پیشوں میں کام کرنے والے افراد
- جون کے مہینے سے:
 - 18 سال سے زائد عمر والے تمام افراد

یہ شیڈول اب بھی تبدیل ہوسکتا ہے۔

کچھ لوگوں کو ویکسین نہیں لگائی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر: کینسر کے مریض ، حاملہ خواتین یا انتہائی الرجی والے افراد۔ مزید معلومات کے لئے ، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کب مجھے ٹیکہ لگے گا؟

- آپ کو خط ، ایس ایم ایس اور / یا ای میل کے ذریعے دعوت نامہ موصول ہوگا۔
- آپ انٹرنیٹ یا فون کے ذریعے اپنا اندراج کرتے ہیں۔



- کیا وقت آپ کے لئے صحیح نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ، آپ دوسرا وقت منتخب کر سکتے ہیں۔
- اگر آپ نے رد عمل ظاہر نہیں کیا تو ، تو شہر یا قصبے کی انتظامیہ آپ سے رابطہ کرے گا۔

میں ٹیکہ کہاں پر لگوا سکتا ہوں؟

کسی بھی ویکسینیشن سینٹر پر

ویکسین کی قیمت کتنی ہے؟

یہ مفت ہے۔

مزید معلومات؟

<https://www.laatjevaccineren.be/>

<https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/>